



13 جولائی 2018

## آگ لگنے کے واقعات اور کاربن مونو آکسائیڈ گیس کے اخراج میں کمی لانے کے لیے، این برج گیس ڈسٹریبیوشن کمپنی، پروجیکٹ زیرو کے تحت، برامپٹن فائر اور فائر مارشلز پبلک فائر سیفٹی کونسل کو مدد فراہم کرے گی

برامپٹن، آن - آج این برج گیس ڈسٹری بیوشن، فائر مارشلز پبلک فائر سیفٹی کونسل اور برامپٹن فائر اینڈ ایمرجینسی سروسز نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے کہ گھروں کے تحفظ اور آتشزدگی و کاربن مونو آکسائیڈ کے اخراج سے ہونے والے جانی نقصانات سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپس میں مل جل کر کام کیا جائے گا۔

برامپٹن فائر کو پروجیکٹ زیرو کے ذریعے کاربن مونو آکسائیڈ اور دھوئیں سے بیک وقت متنبہ کرنے والے 762 عدد الارم موصول ہو چکے ہیں - جبکہ عوامی آگاہی کی مہم کے ذریعے اونٹیریو کی 30 میونسپلٹیز کے رہائشیوں کو 6,600 سے زیادہ الارم مہیا کیے جا رہے ہیں۔ رواں سال کے دوران این برج نے پروجیکٹ زیرو میں \$200,000 لگائے ہیں۔ پروجیکٹ زیرو کے حصے کے طور پر، 2009 سے اب تک اونٹیریو فائر ڈیپارٹمنٹس کو 34,384 الارم موصول ہو چکے ہیں۔

دھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ سے بیک وقت آگاہ کرنے والے الارمز کو اگر درست طریقے سے لگایا اور بحال رکھا جائے، تو یہ گھروں میں لگنے والی آگ اور کاربن مونو آکسائیڈ کے اخراج سے بروقت جان بچانے کے لیے قبل از وقت خبردار کر سکتے ہیں۔

کاربن مونو آکسائیڈ ایک زیریلی گیس ہے اور اس کی بدبو بھی نہیں ہوتی۔ یہ گیس کئی اقسام کے عام ایندھنوں کے ادھورے طور پر جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ کاربن مونو آکسائیڈ کی پیداوار کو روکنے کے لیے لازمی ہے کہ ایندھن جلانے والے تمام آلات کو ٹھیک اور مکمل طور پر کارآمد حالت میں رکھا جائے۔ کاربن مونو آکسائیڈ کے الارمز کی سفارش کاربن مونو آکسائیڈ کے زہریلے اثرات سے بچاؤ کے لیے ایک ثانوی سطح کے دفاع کے طور پر کی جاتی ہے۔

این برج گیس ڈسٹریبیوشن کی جانب سے گرانٹ کل پیٹرک نے کہا کہ "ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ تدارکی اقدامات سے زندگیاں بچ جاتی ہیں۔ اسی بناء پر ہم اپنے صارفین کو آگاہی فراہم کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں کاربن مونو آکسائیڈ گیس اور دھوئیں سے بیک وقت خبردار کرنے والے الارمز نصب کرائیں اور اس کے علاوہ ایندھن استعمال کرنے والے تمام آلات کو ٹھیک اور کارآمد حالت میں رکھیں۔"

اونٹیریو فائر مارشل اور فائر مارشلز پبلک فائر سیفٹی کونسل کے صدر روس نکولس نے کہا کہ "یہ نہایت ضروری ہے کہ اونٹیریو کے رہائشی اپنے آپ کو اور اپنے خاندانوں کو کاربن مونو آکسائیڈ کے زہر سے بچائیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ "شہری اپنے گھر کی ہر منزل پر اور سونے کے کمروں کے قریب کاربن مونو آکسائیڈ الارمز لگوا کر فضول حادثات سے بچنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ پروجیکٹ زیرو ایک انتہائی قابل قدر پروگرام ہے جس کی مدد سے فائر ڈیپارٹمنٹس اپنی کمیونٹی کے رہائشیوں کو کاربن مونو آکسائیڈ کے الارمز کی اہمیت سے آگاہی فراہم کر سکتے ہیں۔"

برامپٹن کی میئر اینڈا جیفری کا کہنا ہے کہ "اس شاندار پروگرام کے نتیجے میں ہمیں موقع میسر آ جائے گا کہ ہم برامپٹن کے رہائشیوں کو دھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ کے مزید الارمز فراہم کر سکیں گے۔" انہوں نے مزید بتایا کہ "ہمیں معلوم ہے کہ یہ زندگیاں بچاتے ہیں اور اپنے شہریوں کا تحفظ کرنا برامپٹن فائر اور شہری انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔"

برامپٹن فائر اینڈ ایمرجینسی سروسز کے چیف بل بونیز نے کہا کہ "زندگیاں بچانے والے یہ الارمز عطیہ کرنے پر، ہم این برج اور فائر مارشلز پبلک فائر سیفٹی کونسل کے تہ دل سے مشکور ہیں۔" انہوں نے مزید بتایا کہ "ہمارا عملہ ہماری کمیونٹیوں میں باہر

خود جا کر ایسے لوگو کو الارمز گھروں میں پہنچانے گا جن کو ان کی اشد ضرورت ہے اور ہم نے اپنے "ہاٹ زون" پروگرام کے ذریعے کچھ ایسے گروپس کی نشاندہی بھی کی ہے جن کو ممکنہ طور پر زیادہ خطرات لاحق ہیں اور انہیں زیادہ ضرورت ہے۔"

### فائر مارشلز پبلک فائر سیفٹی کونسل کے متعلق

فائر مارشلز پبلک فائر سیفٹی کونسل (کونسل) ایک رجسٹر شدہ چیریٹی ہے جس کا قیام 1993 میں عمل میں لایا گیا اور اس کا اولین مقصد ایک "ایسی دنیا تخلیق کرنا ہے جس میں کوئی بھی شخص آگ سے متاثر نہ ہو۔" اونٹیریو فائر مارشل کی صدارت میں اور آفس آف دی فائر مارشل اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ کی معاونت کے ساتھ یہ کونسل عوامی تحفظ کے شعبے میں دلچسپی رکھنے والے مختلف گروپوں اور اشخاص کے تعاون اور اشتراک کے ساتھ آگ سے بچاؤ اور لوگوں کے تحفظ کے لیے عوامی آگاہی کے پروگرام چلاتی ہے۔ کونسل کو ٹوئٹر @FMPFSC پر فالو کریں۔

### برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے متعلق

برامپٹن میں ایک متحرک، متنوع اور فروغ پاتی ہوئی کمیونٹی موجود ہے اور اس کمیونٹی کو غیر معمولی خدمات کی فراہمی کے حوالے سے برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے پاس ایک قدیم روایت موجود ہے۔ 1853 میں برامپٹن کی پہلی فائر بریگیڈ کے قیام کے بعد، اس ڈیپارٹمنٹ نے شہر اور برامپٹن کے رہائشیوں کو فخریہ اور شاندار خدمات کی فراہمی کے 150 سال سے زیادہ مکمل کر لیے ہیں۔ زندگیوں اور پراپرٹیز کو بچانے کے حوالے سے اس ڈیپارٹمنٹ کو قائدانہ حیثیت حاصل ہے اور نئی ترغیبات، تربیت، تدابیر اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس نے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں منوایا ہے۔

### این برج گیس ڈسٹری بیوشن کے بارے میں

این برج گیس ڈسٹری بیوشن آئی این سی کی تاریخ 170 سالوں پر محیط ہے اور اس کو کینیڈا کی سب سے بڑی گیس ڈسٹری بیوشن کمپنی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ این برج آئی این سی کی ملکیت ہے، جو کینیڈا میں انرجی ٹرانسپورٹیشن و ڈسٹری بیوشن کے شعبے میں قائدانہ حیثیت رکھتی ہے اور اس کے پاس پچھلے 9 سالوں سے عالمگیر سطح پر چوٹی کی 100 انتہائی مستحکم کمپنیوں میں شمار ہونے کا اعزاز موجود ہے۔ این برج گیس ڈسٹری بیوشن اونٹیریو میں 2 ملین سے زیادہ صارفین کو گیس ڈسٹری بیوٹ کرتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں [www.enbridgegas.com](http://www.enbridgegas.com) یا ہمیں ٹوئٹر @EnbridgeGas پر فالو کریں۔

-30-

### مزید معلومات کے لیے براہ کرم رابطہ کریں:

کیتھی ایش، فائر مارشلز پبلک فائر سیفٹی کونسل  
ٹیلیفون: 1-379-6668 ایکٹینشن 105  
ای میل: [kathy.ash@firesafetycouncil.com](mailto:kathy.ash@firesafetycouncil.com)

نتالی اسٹوگڈل، میڈیا کوآرڈینیٹر، سٹی آف برامپٹن  
ٹیلیفون: 905-874-3654  
ای میل: [natalie.stogdill@brampton.ca](mailto:natalie.stogdill@brampton.ca)

اکیلہ ڈریسیکی، این برج گیس ڈسٹری بیوشن  
ٹیلیفون: 1-855-884-5112  
ای میل: [enbridgegasmedia@enbridge.com](mailto:enbridgegasmedia@enbridge.com)